

اسم ظرف کی قسمیں: (۱) اسم ظرف مکان (۲) اسم ظرف زمان

اسم ظرف مکان: وہ اسم نکرہ جو کسی جگہ کو ظاہر کرے جیسے: مسجد، مدرسہ، گھر، اسٹیشن، بڑی منڈی، کانِ نمک، شفاغانہ، عیدگاہ، کتب خانہ، تارگھر، ڈاک خانہ، دارالحکومت، شکارگاہ، مے خانہ، منزل۔

اسم ظرف زمان: وہ اسم نکرہ جو کسی وقت کو ظاہر کرے جیسے: صبح، شام، دوپہر، رات، دن، سال، مہینا، ہفتہ، منٹ، سینٹ، آج، کل، صدی۔



اسم کی ساخت کے اعتبار سے قسمیں

(۱) اسم جامد (۲) اسم مصدر (۳) اسم مشتق

اسم جامد: وہ اسم ہے جو نہ تواند کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے جیسے: اینٹ، پتھر، درخت، چٹان، پہاڑ، وادی، چٹائی، میز، کرسی، دیوار، چھت وغیرہ۔

اسم مصدر: وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے اسم اور فعل بنیں جیسے: اچھانا، کو دنا، آنا، جانا، لکھنا، پڑھنا وغیرہ۔ اُردو زبان میں ”نا“ مصدر کی علامت ہے لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں ”نا“ آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے۔ جیسے: گنا، کانا، نانا، پرانا، کچھونا (بستر)، چونا، تانا، بانا، سونا (دھات) سونا (ویران) گھرنا، یہ مصدر نہیں ہیں۔

اسم مصدر کی قسمیں: (۱) مصدر مفرد (۲) مصدر مركب (۳) مصدر لازم (۴) مصدر متعدد

源源: وہ اسم جو شروع ہی سے مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے: آنا، جانا، لکھنا، پڑھنا، سنبھالنا وغیرہ

مصدر مرکب: وہ اسم ہے جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنالیتے ہیں اسے مصدر مرکب کہتے ہیں جیسے بہک جانا، بھٹک جانا، لکھ پڑھنا، قصیدہ لکھنا، سچ کھنا، جھوٹ بولنا وغیرہ۔

مصدر لازم: وہ جو صرف فعل کو چاہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ چنانچہ جس مصدر سے فعل لازم بنے گا، وہ مصدر بھی لازم ہو گا جیسے: آنا، جانا، چلنا، دوڑنا، ہنسنا، رونا، بھاگنا، سونا، جا گنا، اچھانا کو دنا وغیرہ سب مصدر لازم ہیں۔

مصدر متعدد: وہ مصدر ہے جس سے متعدد افعال بنتے ہیں اور متعدد فعل وہ ہے جو فعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے۔ جن مصادر سے یہ متعدد افعال بنیں گے وہ مصدر متعدد ہوں گے جیسے لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، بیٹھنا، دوڑنا، لانا، بھگانا، اچھالنا، دیکھنا وغیرہ سب متعدد مصدر ہیں۔

نوث: یہ یاد رہے کہ مصدر لازم کو مصدر متعدد بنالیتے ہیں جس کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں:

۱۔ مصدر لازم کی ”نا“ سے پہلے ”الف“ لگادینے سے مصدر متعدد بن جاتا ہے جیسے: چلنا مصدر لازم سے چلانا مصدر متعدد اور ہنسنا مصدر لازم سے ”ہنسنا“ مصدر متعدد بن جائے گا۔

۲۔ مصدر لازم کے دوسرے حرف کے بعد ”الف“ لگا دینے سے مصدر متعدد بن جاتا ہے جیسے: اچھانا

سے ”اچھالنا“، مصدر متعدد بن جائے گا۔

ن۔ مصدر لازم کے دوسرے حرف کے بعد ”ئی“، لگادینے سے مصدر متعدد بن جاتا ہے جیسے: سمٹنا سے ”سمٹنا“، سکرنا سے ”سکرنا“،

اسم مشتق: وہ اسم ہے جو خود تومصدر سے بنے لیکن اس سے پھر کوئی لفظ نہ بنے جیسے: لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا الفاظ بنتے ہیں لیکن آگے ان سے کوئی لفظ نہیں بنتا۔

اسم مشتق کی قسمیں: (۱) اسم فاعل (۲) اسم مفعول (۳) اسم حالیہ (۴) اسم حاصل مصدر اسم فاعل: وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل کو ظاہر کرے جیسے: وسیم لکھنے والا۔ مقیم پڑھنے والا۔ ان میں وسیم کو لکھنے والا اور مقیم کو پڑھنے والا کہ کر دونوں کا فاعل ہونا ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے لکھنے والا اور پڑھنے والا اسم فاعل کہلاتے ہیں۔

اسم فاعل کی قسمیں: (۱) اسم فاعل قیاسی (۲) اسم فاعل سماعی
اسم فاعل قیاسی: وہ اسم ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے جیسے: لکھنے والا، پڑھنے والا
اسم فاعل قیاسی بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے ”الف“ ہٹا کر مذکور کے لیے ”ے والا“ اور مؤنث کے لیے ”ے والی“ لگادینے سے اسم فاعل بن جاتا ہے جیسے: پڑھنا سے پڑھنے والا اور پڑھنے والی، لکھنا سے لکھنے والا اور لکھنے والی۔

اسم فاعل سماعی: وہ اسم فاعل ہے جو کسی خاص قاعدے سے نہ بنایا بلکہ اہل زبان سے سننے میں آیا ہو مثلاً: لکھا ہارا، ترکھان، بڑھئی، سنار، لوہا ر، طبیب، تیراک، پچماری، کھلاڑی، گویا، حلوانی، موچی، جلاہا، بھکاری، بھٹیارا، سپیرا، گھسیرا، کسان، جیب کتراء، ڈاکیا، لٹیرا، ڈاکو، چور، اپکا، جواری وغیرہ۔

اسم فاعل سماعی بنانے کا طریقہ: اس اسم فاعل کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں بلکہ اہل زبان سے مختلف علماتوں کے لگانے سے اسم فاعل بنایا جانا متفق ہے۔ جیسے: ٹھٹھیرا، لکھا ہارا، رکھوا، رکھوا، حلوانی، دھوپی، موچی، جوہری، سنار، پچماری، بھکاری، بھٹیارا، سپیرا، گھسیرا، ڈاکو، جیب کتراء، چور، ڈاکیا، کھلاڑی، گویا۔

فارسی کے بعض اسم فاعل بھی اردو میں مستعمل ہیں مثلاً: راہ بر، راہ نما، سرمایہ دار، کتب فروش، خیرخواہ، باع بان، تو پیچی، طلب گار، باشدہ، دانش ور، جادوگر، جفت ساز، خدمت گار، پرہیز گار وغیرہ۔ اس کے علاوہ عربی کے بعض اسم فاعل بھی اردو میں بکثرت استعمال کیے جاتے ہیں جیسے: خادم، حاکم، شاعر، کاتب، عادل، عاپد، ساجد، رازِ ق، خالق، قابل، معالج، مقابل، مفاجر، مفاسد، ملازم، محاذیظ، مجید، مسافر، مونس، محسن، موجود، مُشفق۔ مُنصف، منکر، محبم، مصوّر، محقق، مبلغ، مرتب، مصیف، معلم، متنکر، متكلم، مختبل، متفکر، متوكل وغیرہ۔

اسم فاعل اور فاعل میں فرق

- ۱۔ اسم فاعل بنایا جاتا ہے لیکن فاعل بنایا نہیں جاتا بلکہ اس سے تو صرف فعل واقع ہوتا ہے۔
- ۲۔ اسم فاعل وہ ہے جو فاعل کو ظاہر کرے جب کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔
- ۳۔ اسم فاعل کو فاعل کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن فاعل کبھی اسم فاعل کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا جیسے: لکھنے والے نے خط لکھا۔

یہاں لکھنے والا اگرچہ اسمِ فعل ہے لیکن فعل بنتا ہوا ہے۔

اسمِ مفعول:

وہ اسمِ مشتق ہے جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے جیسے: لکھا ہوا خط، پڑھی ہوئی کتاب، ان جملوں میں لکھا ہوا اور پڑھی ہوئی اسمِ مفعول ہیں کیوں کہ یہ دونوں خط اور کتاب کا مفعول ہونا ظاہر کر رہے ہیں۔

اسمِ مفعول کی قسمیں: (۱) اسمِ مفعول قیاسی (۲) اسمِ مفعول سماعی

اسمِ مفعول قیاسی: وہ اسمِ مشتق ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے۔

۱۔ اسمِ مفعول قیاسی بنانے کا طریقہ: جس مصدر سے اسمِ مفعول بنانا ہواں کی ماضی مطلق کے آخر میں ہوا لگادینے سے اسمِ مفعول بن جاتا ہے جیسے: لکھنا سے لکھا ہوا اور لکھی ہوئی۔ پڑھنا سے پڑھا ہوا اور پڑھی ہوئی اسمِ مفعول بن گئے۔

۲۔ اسمِ مفعول سماعی: وہ اسم ہے جو کسی قاعدے سے بنایا تو نہیں جاتا لیکن معنی اسمِ مفعول کے دیتا ہے۔ مثلاً: نکلا (ناک کشا ہوا) کن چھدا (کان میں سوراخ کیا ہوا) بیاہتا (شادی کی ہوئی) دکھی (ستایا ہوا) وغیرہ فارسی کے اسمِ مفعول اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے: اندوختہ (جمع کیا ہوا) آزمودہ (پڑھا ہوا) آزمودہ (آزمایا ہوا) شنیدہ (سننا ہوا) وغیرہ

عربی کے اسمِ مفعول اردو میں بھی کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے: مظلوم، مخلوق، معبد، معلوم، مقتول، مقتدر، منتشر، منتخب، منظر وغیرہ۔

اسمِ مفعول اور مفعول میں فرق:

۱۔ اسمِ مفعول وہ ہے جو مفعول کو ظاہر کرے اور مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہو۔

۲۔ اسمِ مفعول مصدر سے بنایا جاتا ہے لیکن مفعول بنایا نہیں جاتا۔

۳۔ اسمِ مفعول کو مفعول کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مفعول کبھی اسمِ مفعول کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا جیسے: میں نے لکھا ہوا پڑھا، پچھا ہوا بھول گیا۔ ان جملوں میں لکھا ہوا، پڑھا ہوا دونوں اسمِ مفعول ہیں جو مفعول کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔

اسمِ حالیہ:

وہ اسمِ مشتق ہے جو کسی فعل یا مفعول کی حالت بیان کرے جیسے: نیم ہنستا ہوا آیا۔ وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پہلے جملے میں ”ہنستا ہوا“ فعل نیم کی حالت بیان کر رہا ہے۔ دوسرا جملے میں ”پڑھتے ہوئے“ کامران جو کہ مفعول ہے، کی حالت بیان کر رہا ہے لہذا ”ہنستا ہوا“ اور ”پڑھتے ہوئے“ دونوں اسمِ حالیہ ہیں۔

اسمِ حالیہ بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے ”نا“ بٹا کر ”تا ہوا“ لگادینے سے اسمِ حالیہ بن جاتا ہے جیسے لکھنا سے لکھتا ہوا، لکھتی ہوئی، پڑھنا سے پڑھتا ہوا، پڑھتی ہوئی اسمِ حالیہ ہیں۔

اسمِ حاصل مصدر:

وہ اسمِ مشتق ہے جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے، مثلاً آہٹ (آن)، (اڑائی اڑنا)، دباو (دبانا)۔ چنانچہ

آہٹ بڑائی، دباؤ حاصل مصدر ہیں۔

حاصل مصدر بنانے کے طریقہ:

- ۱۔ بعض مصوروں کے آخر سے ”الف“ ہٹا کر جو باقی رہے وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے جیسے: جلانے سے جلن، چلنے سے چلن، دکھنا سے دکھن، لگنانے سے لگن، چھننا سے چھن۔
- ۲۔ بعض مصوروں کے آخر سے ”نا“ ہٹا کر باقی جو رہے وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے جیسے: دوڑنا سے دوڑ، چاہنا سے چاہ، بھاگنا سے بھاگ، دیکھنا سے دیکھ حاصل مصدر ہیں۔
- ۳۔ بعض مصوروں کے آخر سے ”نا“ ہٹا کر ”و“، لگادینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے جیسے: دبانا سے دباؤ، جھکانا سے جھکاؤ۔
- ۴۔ بعض مصوروں کے آخر سے ”نا“ ہٹا کر ”وٹ“، لگادینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے جیسے: ملانا سے ملاوٹ، گرانا سے گراوٹ، بنانا سے بناؤٹ، سجانا سے سجاوٹ۔
- ۵۔ بعض مصوروں کے آخر سے ”نا“ ہٹا کر ”ہٹ“، لگادینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے جیسے: گھبرا نے گھبراہٹ، مسکرانا سے مسکراہٹ، آنا سے آہٹ۔
- ۶۔ بعض مصوروں کے آخر سے ”نا“ ہٹا کر ”آئی“، لگادینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے جیسے: لڑنا سے لڑائی، رنگنا سے رنگائی، پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی، پٹانا سے پٹائی۔
- ۷۔ لڑکپن، بچپن، اپنائیت، چاہت، چال یہ سب بھی حاصل مصدر ہیں۔
- ۸۔ فارسی کے حاصل مصدر اردو میں بھی حاصل مصدر ہی شمار ہوں گے جیسے: گفت گو، جتجو، آمدورفت، آزمائش، پیمائش وغیرہ
- ۹۔ عربی کے حاصل مصدر اردو میں بھی حاصل مصدر کے طور پر ہی استعمال ہوں گے جیسے: شرافت، جہالت، جماعت، علم، عمل وغیرہ

اسم معاوضہ:

وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام یا کسی خدمت کی اجرت اور بد لے کے معنی دے مثلاً پسوائی۔ دھلائی۔
اسم معاوضہ بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے ”نا“ ہٹا کر ”آئی“ لگادینے سے اسم معاوضہ بن جاتا ہے جیسے: رنگوانا سے رنگوائی لگوانا سے لگوائی، دھلانا سے دھلائی، اٹھوانا سے اٹھوائی، پسوانا سے پسوائی وغیرہ

اسم صفت:

وہ اسم ہے جس سے کسی کی اچھی یا بُری حالت ظاہر کی جائے مثلاً نیک لڑکا، اوپنجی دیوار، ان میں نیک اور اوپنجی اسم صفت ہیں جس کی اچھی یا بُری حالت ظاہر کی اسے اسم موصوف کہتے ہیں جیسے: اوپر کی مثالوں میں لڑکا اور دیوار اسم موصوف ہیں۔

اسم صفت کی قسمیں: (۱) صفت اصلی (۲) صفت ثابتی

- ۱۔ صفت اصلی: وہ اسم ہے جو زبان میں شروع سے کسی کی اچھائی یا بُرائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے جیسے: اچھا۔ بُرا۔ نیک۔ بد۔ تیز۔ سُخت۔



صفتِ اصلی کے تین درجے: (۱) صفتِ نفسی (۲) صفتِ بعض (۳) صفتِ گل

صفتِ نفسی: وہ اسم صفت ہے جس سے کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلہ کے ظاہر کی جائے جیسے: اچھا، برا، اونچا، نیک، بد، خوب صورت وغیرہ

صفتِ بعض: وہ اسم صفت جس سے کسی ایک کو دوسرے سے بڑھایا جائے مثلاً: اس سے اونچا، نیک تر۔

صفتِ گل: وہ اسم صفت ہے جس سے ایک کو دوسرے سب سے بڑھایا جائے جیسے: سب سے اونچا، بلندترین، نیک ترین۔

۲۔ صفتِ نسبتی: وہ اسم صفت ہے جو صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی وجہ سے صفت کے معنی ظاہر کرے جیسے: لاہوری نمک، عربی آدمی۔ ان دونوں میں لاہوری کا الفاظ لاہور سے اور عربی کا الفاظ عرب سے تعلق ظاہر کرنے کی وجہ سے صفتِ نسبتی کا ہلاتے ہیں۔

صفتِ نسبتی بنانے کا طریقہ:

۱۔ بعض اسموں کے آخر میں ”ی“، ”گا“ دینے سے صفتِ نسبتی بن جاتی ہے جیسے: لاہور سے لاہوری، ملتان سے ملتانی قصور سے قصوری۔

۲۔ اگر کسی اسم کے آخر میں ”الف۔۔۔ی“ ہوں تو الف، اوری کو ”و“ سے تبدیل کر کے ”ی“، نسبتی لگائی جائے گی جیسے: بھیرہ سے بھیروی، ڈسکوئی، گولڑہ سے گولڑوی صفتِ نسبتی بنائی جائے گی۔

۳۔ بعض اسموں کے آخر میں ”انه“، ”گا“ دینے سے صفتِ نسبتی بن جاتی ہے جیسے: شاگرد سے شاگردانہ، استاد سے استادانہ، عالم سے عالمانہ۔ مرد سے مردانہ، ماہ سے ماہنامہ، دوست سے دوستانہ، جاہل سے جاہلانہ وغیرہ

۴۔ بعض اسموں کے آخر میں ”انی“، ”گا“ دینے سے صفتِ نسبتی بن جاتی ہے جیسے: نور سے نورانی، روح سے روحانی۔
یہ ہندی ، وہ خراسانی ، یہ افغانی ، وہ تورانی
تو اے شرمذنا ساحل! اچھل کر بے کراں ہو جا

علامہ اقبالؒ کے اس شعر میں اسی قاعدے سے بنائے ہوئے الفاظ خراسانی، افغانی اور تورانی ایسے اسم صفت ہیں جن کی نسبت خراسان، افغان اور توران سے ظاہر کی گئی ہے۔

۵۔ بعض اسموں کے آخر میں ”ین“، ”گا“ دینے سے صفتِ نسبتی بن جاتی ہے جیسے: رنگ سے رنگین، سگ (پتھر) سے سگین، نمک سے نمکین، زر سے زریں وغیرہ

۶۔ مکہ اور مدینہ کی صفتِ نسبتی خلاف قیاس مکہ سے کمی اور مدینہ سے مدنی استعمال کی جاتی ہے۔

۷۔ یہ الفاظ بھی صفتِ نسبتی ہیں: میالا، جیالا، شرمیلا، رنگیلا، زہریلا، سنہری، میالا، جیالا، گنوار، چیپر، میر وغیرہ

